

## 96644 - کیا حاجی کے لیے قربانی کرنا مشروع ہے

سوال

کیا حج میں ہم دونوں میاں اور بیوی ایک قربانی کریں یا کہ دو، اور کیا ہمیں اپنے ملک میں بھی قربانی کرنا ہو گی یا نہیں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اول:

اگر آپ دونوں حج تمتع یا حج قرآن کر رہے ہیں تو پھر ہر ایک پر مستقل قربانی ہوگی، اور ایک بکرا ذبح کرنا کافی نہیں ہوگا؛ کیونکہ حج تمتع اور حج قرآن میں قربانی واجب ہے اور دو شخص قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ دس روزے رکھے گا، تین روزے حج میں اور سات اپنے گھر آ کر.

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور جو کوئی حج تمتع کرے، تو جو قربانی میسر ہو اور جو قربانی نہ پائے تو وہ حج میں تین روزے رکھے، اور سات روزے جب تم واپس آ کر رکھو، یہ پورے دس ہیں البقرة ( 196 ).

لیکن اگر آپ نے حج افراد کیا ہے تو پھر آپ پر قربانی لازم نہیں، لیکن اگر آپ نفلی قربانی کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ایک یا اس سے زائد قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں ایک سو اونٹ قربان کیے تھے.

دوم:

رہا مسئلہ عید قربان کے موقع پر کی جانے والی قربانی تو حاجی کے لیے یہ مشروع نہیں، بلکہ حاجی کے لیے تو حج کی قربانی جسے ہدی کہا جاتا ہے کرنا مشروع ہے.

# اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:  
شیخ محمد صالح المنجد

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے درج ذیل سوال دریافت کیا گیا:

حج اور عید قربان کی قربانی کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے، اور کیا ایسا کرنا مشروع ہے؟

شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا:

" حاجی عید قربانی والی قربانی نہیں کریگا، بلکہ وہ تو ہدی دے گا، اسی لیے حجة الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قربانی والی قربانی نہیں کی، بلکہ آپ نے ہدی دی۔

لیکن اگر فرض کریں کہ کسی شخص نے اکیلے حج کیا اور اس کے بیوی بچے اپنے ملک میں ہیں تو یہاں وہ اپنے گھر والوں کے لیے مبلغ چھوڑ جائے کہ وہ قربانی کا جانور خرید کر ذبح کریں، اور حاجی خود ہدی دے، اور اس کے گھر والے عید قربان پی کی جانے والی قربانی کر لیں۔

کیونکہ عید قربان پر کی جانے والی قربانی دوسرے علاقوں میں کی جاتی ہے، اور مکہ میں ہدی ہوگی " انتہی

ماخوذ از: اللقہاء الشہری۔

مزید فائدہ کے حصول کے لیے آپ سوال نمبر ( 82027 ) کے جواب کا مطالعہ کریں۔

واللہ اعلم .